

3.

صبح کا وقت ٹوٹ کر آیا، ہوا میں نئے دن کا وعدہ محسوس ہو رہا تھا۔ پرندے گاتے ہوئے اُٹھے، ان کی آوازیں خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ صبح کی پہلی روشنی افق سے چمک کر آسمان کو نرم گلابی اور نیلے رنگوں سے سجا رہی تھی۔ گھاس پر شبلم کی بوندیں چمک رہی تھیں، جیسے زمین پر چھوٹے بیروں کی طرح بکھر گئی ہوں۔ دنیا تازہ محسوس ہو رہی تھی، جیسے اسے صاف ستھری حالت میں لوٹایا گیا ہو۔ درختوں کی نرم سرسراہٹ اور ہوا کے جھونکے میں زندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا میں امید کی خوشبو تھی، جیسے کچھ بھی ممکن ہو۔ زمین جیسے اپنی نیند سے بیدار ہو رہی ہو، اور سب کچھ نیا آغاز کرنے کو تیار ہو۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ہر دن کے نئے امکانات نظر آ رہے تھے۔ اس خاموش صبح میں، ایک وعدہ تھا کہ ہر دن میں نئی امید اور نئی توانائی ہوتی ہے۔

Translation:

The morning time abruptly started, the promise of the new day was ~~feeling~~ reflecting while singing, the birds ~~glow~~; their sounds were tearing the silence. The first light of the morning, by brightening from the East, was decorating the sky with light pink and blue colours. Water drops were shining on the grass, just like small diamonds spreading on the ground. Earth was looking fresh in such a way as if it has been returned to its neat and clean form. Life was reflecting in the soft sounds of trees and the breeze of air. There was the fragrance of hope in the air, like everything is possible. Earth seems to be waking from its sleep, and everything is ready to start new beginning. It was such a moment when new possibilities of everyday ~~looking~~ seeming (clear). On this silent morning, there was a promise that in every day new hope and new energy exists.

(v) He was knocked ----- by the bus.

(vii) The meeting was put ----- by the Chairman.

(vi) -----

(viii) He rounded ----- his speech with a quote from Gha

Use ONLY FIVE of the following in sentences which illustrate their meanings.

(10)

(i) To break the ice

(ii) Nip in the bud

(iii) See eye to eye with

(iv) For good

(v) Tamper with

(vi) The small hours

(vii) Keep up appearances

(viii) Prima facie

Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions.

(10)

دنیا کی ہر قوم کا نظام تعلیم اپنی قوم کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتا ہے جو قومی اور ملی مقاصد کی تشکیل و تکمیل کرتا ہے۔ اور قوم مطلوبہ مقاصد کے لیے سرگرم عمل رہتی ہے۔ چنانچہ کسی قوم کا نظام تعلیم وہ ہمہ گیر نظام تربیت ہے جس کے تحت قوم کے افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان کی سیرت و کردار کی تعمیر میں مدد ملتی ہے۔ نظام تعلیم افراد کی تربیت اس انداز سے کرتا ہے کہ افراد قوم کی تقدیر بدل دیے ہیں۔

Translation:

The education system of every nation aligns with its nature which build and achieve national and collective purpose. And the nation actively works for the desired goals. Therefore, the education system of a nation is such a training system which helps to develop mental capabilities and personality and character building of the people of a nation.

in such a way that the individuals change the destiny of the nation

satisfactory 5/10